



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

“Digitalizzazione per una scuola del futuro”

ISTITUTO COMPRENSIVO CLAUDIO PUDDU

Via Isola di Lero 81 - 59100 Prato (PO) Tel. 0574 653124 - fax: 0574 721602

Codice Ministeriale POIC81600A – Codice Fiscale 84032340485

www.puddu.prato.it - mail: poic81600a@istruzione.it - PEC: poic81600a@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CLAUDIO PUDDU

ORGANIZZAZIONE ORARIA E DIDATTICA

PLESSO CLAUDIO PUDDU

VIA MONTALESE, 239

-SCUOLA DELL'INFANZIA

نرسر ع اسكول

-SCUOLA PRIMARIA

پرائمری اسكول

PIANO ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA/ داخلہ اور باہر نکلنے کا منصوبہ نرسری اسكول

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00

Un solo genitore o suo delegato:

- accompagnerà il proprio figlio all'ingresso dell'aula posta sul giardino, entrando dai cancelli di accesso, secondo il prospetto seguente, dove ad accoglierli troverà l'insegnante di sezione;
- saluterà il bambino e senza indugio si avvierà all'uscita

آپ 8.30 سے 9.00 تک داخل ہوسکتے ہیں

اکیلا والدین یا اس کا نمائندہ:

مندرجہ ذیل منصوبہ کے مطابق ، اپنے بچے کے ساتھ باغ میں کلاس روم کے داخلی دروازے تک ، گیٹ سے گزرے گا، جہاں سیکشن ٹیچر ان کا استقبال کرے گا۔

- بچے کو سلام کرے اور فوری طور پر باہر نکلیں گا۔

PIANO ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA/ داخلہ اور باہر نکلنے کا منصوبہ

نرسری اسكول

Uscita alle ore 16.00*

Un solo genitore o suo delegato;

- riprenderà il proprio figlio all'ingresso dell'aula posta sul giardino, entrando dai cancelli di accesso, secondo il prospetto seguente, dove ad accoglierlo troverà l'insegnante di sezione;
- senza indugio si avvierà all'uscita, sempre passando dal cancello di entrata, senza sostare nel giardino.

شام 4 بجے روانگی ہوگی *

اکیلا والدین یا اس کا نمائندہ:

- مندرجہ ذیل منصوبہ کے مطابق ، اپنے بچے کو باغ میں کلاس روم کے دروازے پر ، رسائی کے دروازوں سے داخل ہوکر لے گا، جہاں سیکشن ٹیچر ان کا استقبال کرے گا۔

- بغیر کسی تاخیر کے وہ باہر نکلیں گے ، باغ میں رکے بغیر۔

* Potranno trattenersi a scuola fino alle 16.15 o 16.30 solo gli alunni che abbiano sorelle e/o fratelli iscritti alla scuola primaria.

صرف وہ شاگرد جن کی بہنوں اور بھائیوں نے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا ہے وہ شام 4.15 یا شام 4.30 بجے تک اسکول میں رہ سکتے ہیں۔

PROSPETTO ENTRATE E USCITE^[1]SCUOLA INFANZIA/داخلہ اور باہر نکلنے کا منصوبہ

نرسری اسکول

SEZIONE/سیکشن ENTRATA/USCITA/داخلہ/باہر

A CANCELLO (LATO PIZZERIA) پیزیریا کی طرف سے ڈور

B

CANCELLO (LATO PIZZERIA) پیزیریا کی طرف سے ڈور

C CANCELLO (LATO BANCA) بانک کی طرف سے ڈور

D CANCELLO (LATO PIZZERIA) پیزیریا کی طرف سے ڈور

SCUOLA INFANZIA/نرسری اسکول

Si rammenta che ogni alunno non potrà portare/condividere con gli altri compagni alcun materiale/gioco portato da casa.

نوٹ کریں کہ ہر طالب علم دوسرے ہم جماعت کے ساتھ گھر سے لائے گئے کسی بھی مواد / کھیل کو لے / شیئر نہیں کر سکتا ہے

SCUOLA PRIMARIA

PIANO ENTRATA E USCITA/داخلہ اور باہر نکلنے کا منصوبہ

پرائمری اسکول

Un solo genitore o su delegato accompagnerà e riprenderà il proprio figlio all'ingresso del cancello, posto in Via dell'Artigianato, o del portone principale, posto in Via Montalese-239, secondo i seguenti orari e individuazioni:

Via Montalese - یہ Via dell'Artigianato ایک اکیلا والدین یا اس کا نمائندہ اپنے بچے کے ساتھ مندرجہ ذیل اوقات کے مطابق پر چھوڑ کر جائے گا۔ 239

PIANO CLASSI PRIME/کلاس منصوبہ

CLASSE/کلاس ORARIO ENTRATA/داخل ہونے کا وقت ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت ORARIO

ENTRATA VENERDÌ/داخل ہونے کا وقت جمعہ کو ORARIO USCITA VENERDÌ/باہر نکلنے کا وقت جمعہ کو

INGRESSO/ڈور

I A 8.15 16.15 8.15 12.45 VIA DELL'ARTIGIANATO

I B 8.15 16.15 8.15 12.45 VIA DELL'ARTIGIANATO

I C 8.15 16.15 8.15 12.45 VIA DELL'ARTIGIANATO

CLASSE/کلاس ORARIO ENTRATA/داخل ہونے کا وقت ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت ORARIO

ENTRATA VENERDÌ/داخل ہونے کا وقت جمعہ کو ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت جمعہ کو

II A 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA DELL'ARTIGIANATO

II B 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA DELL'ARTIGIANATO

II C 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA DELL'ARTIGIANATO

CLASSE/کلاس ORARIO ENTRATA/داخل ہونے کا وقت ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت ORARIO

ENTRATA VENERDÌ/داخل ہونے کا وقت جمعہ کو ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت جمعہ کو

III A 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA MONTALESE

II B 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA MONTALESE

II C 8.30 16.30 8.30 13.00 VIA MONTALESE

CLASSE/کلاس	ORARIO ENTRATA/داخل ہونے کا وقت	ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت	ORARIO ENTRATA VENERDÌ/داخل ہونے کا وقت جمعہ کو	ORARIO USCITA VENERDÌ/باہر نکلنے کا وقت جمعہ کو	
	INGRESSO/ڈور				
IV A	8.30	16.30	8.30	13.00	VIA MONTALESE
IV B	8.30	16.30	8.30	13.00	VIA MONTALESE
IV C	8.30	16.30	8.30	13.00	VIA MONTALES
CLASSE/کلاس	ORARIO ENTRATA/داخل ہونے کا وقت	ORARIO USCITA/باہر نکلنے کا وقت	ORARIO ENTRATA VENERDÌ/داخل ہونے کا وقت جمعہ کو	ORARIO USCITA VENERDÌ/باہر نکلنے کا وقت جمعہ کو	
	INGRESSO/ڈور				
V A	8.15	16.15	8.15	12.45	VIA DELL'ARTIGIANATO
V B	8.15	16.15	8.15	12.45	VIA DELL'ARTIGIANATO
V C	8.15	16.15	8.15	12.45	VIA DELL'ARTIGIANAT

PIANO ENTRATA E USCITA/داخلہ اور باہر نکلنے کا منصوبہ/SCUOLA PRIMARIA/پرائمری اسکول

I cancelli e il portone di entrata verranno chiusi per la prima entrata alle ore 8.25 e per la seconda entrata alle ore 8.40.

داخلی دروازہ صبح 8.25 بجے اور دوسری داخلے کے لئے صبح 8.40 بجے بند ہوگا۔

Gli alunni arrivati in ritardo potranno accedere all'edificio scolastico dopo le 9.00, entrando dal portone principale e previo avviso telefonico per la prenotazione del pasto mensa.

اسکول میں دیر سے پہنچنے والے طلبہ صبح 9.00 بجے کے بعد، مرکزی دروازے سے داخل ہوکر اور کینٹین کے کھانے کی بکنگ کے لئے ٹیلیفون کر کے داخل ہوسکیں گے۔

All'uscita gli alunni saranno accompagnati al cancello e/o al portone dall'insegnante dell'ultima ora, che li consegnerà al genitore o al suo delegato maggiorenne.

باہر نکلنے پر، شاگرد اساتذہ کے ذریعہ گیٹ پر جائیں گے، جو انہیں والدین یا اس کے بالغ مندوب کے حوالے کریں گے۔

SCUOLA PRIMARIA/پرائمری اسکول

Si rammenta che ogni alunno non potrà condividere con gli altri compagni alcun materiale portato da casa, tutto dovrà essere personale, quindi si sollecitano i genitori affinché il proprio figlio abbia nello zaino quanto necessiti per la sua attività didattica.

نوٹ کریں کہ ہر طالب علم دوسرے ہم جماعت کے ساتھ گھر سے لائے گئے کسی بھی مواد کو لے / شیئر نہیں کرسکتا ہے

Per poter accedere nel plesso scolastico, ogni bambino dovrà indossare la mascherina.

اسکول میں داخل ہونے کے لئے، ہر بچے کو ماسک پہننا ہوگا۔